

نوٹ: ہر سوال کے چار کنڈے جوابات A, B, C اور D دیے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مار کر یا چین سے کھر دینے چاہئے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پر کرنے یا کٹ کر پر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا

سوال نمبر 1

- 1- جزوی معاشیات میں مطالعہ کیا جاتا ہے  
(A) قومی آمدنی کا (B) National Income بے روزگاری کا (C) Unemployment چھوٹی پیکر (D) Trade cycle Consumer's behaviour روپیہ صارف کا
- 2- معاشیات میں کلاسیکل سکھ نگار کاپی ہے  
In Economics founder of classical school of thought is  
(A) ریکارڈو (B) Ricardo آدم سمٹھ (C) Adam Smith رابنز (D) Marshall
- 3- جب کسی شے کا کل انفرادہ زیادہ سے زیادہ ہو تو ختم انفرادہ ہوتا ہے  
When total utility of any commodity is maximum then marginal utility is  
(A) منفی (B) Negative صفر (C) Zero مثبت (D) Positive زیادہ سے زیادہ
- 4- خطوط ہمزج کی شکل ہوتی ہے  
Slope of indifference curve is  
(A) محدب (B) Convex عمودی (C) Vertical مقعر (D) Concave افقی
- 5- ایک درجی مساوات کا خط ہوتا ہے  
Curve of Linear equation is  
(A) دائری (B) Circular خط مستقیم (C) Straight line قوسی (D) Curved محدب (E) Convex
- 6- کسی شے کی قیمت اور مقدار طلب کے درمیان تقابلی رشتہ پایا جاتا ہے  
Functional relationship between price and demand quantity of commodity is  
(A) منکوس (B) Inverse بھڑکی (C) Increasing مثبت (D) Positive براہ راست تعلق
- 7- کوئی اشیاء کا جوڑا مکملی طلب کا حامل ہے  
Which pair of goods is complementary demand  
(A) پٹرول اور کار (B) Petrol and car گوشت اور بھری (C) Meat and vegetable چائے اور کافی (D) Tea and coffee سیانے اور کتاب
- 8- کسی شے کی مقدار جو کسی خاص وقت میں خاص قیمت پر فروخت کے لئے منڈی میں لائی جاتی ہے۔ کہلاتی ہے  
Ink and book  
The quantity of commodity which is offered for sale at a specific price in a specific time in the market is called  
(A) مقدار (B) Quantity ذخیرہ (C) Stock طلب (D) Demand رسد
- 9- قانون رسد کی رو سے قیمت اور رسد میں تعلق پایا جاتا ہے  
According to law of supply, relationship between price and supply is  
(A) بھڑکی (B) Increasing منکوس (C) Inverse منفی (D) Negative گھٹتی
- 10- دو نقطہ جہاں خط طلب اور خط رسد ایک دوسرے کو قطع کرتے ہیں۔ کہلاتا ہے  
The point on which demand and supply curves intersect each other is known as  
(A) صارف کا توازن (B) Consumer's equilibrium طلب کا توازن (C) Equilibrium of demand رسد کا توازن (D) Equilibrium of supply نقطہ توازن
- 11- زمین کے استعمال کا صلہ کہلاتا ہے  
Reward of the use of land is called  
(A) سود (B) Interest لگان (C) Rent منافع (D) Wage اجرت
- 12- عاملین پیداوار اور پیداوار کے درمیان پایا جانے والا تقابلی رشتہ کہلاتا ہے  
The functional relationship between factors of production and output is called  
(A) پیداوار وسائل (B) Production resources پیداوار دولت (C) Productive wealth تقابلی پیداوار (D) Production function طریق پیداوار
- 13- قانون تھقلیل حاصل کے خط کا درجہ ہوتا ہے  
Slope of line of law of decreasing returns is  
(A) منفی (B) Negative بھڑکی (C) Increasing عمودی (D) Vertical افقی
- 14- قانون تھقلیل حاصل کا دوسرا نام ہے  
Second name of law of decreasing returns is  
(A) قانون بھڑکی حاصل (B) Law of increasing returns قانون بھڑکی مصارف (C) Law of increasing cost
- 15- عمارت کا کرایہ اور مستقل ملائی تنخواہیں کہلاتی ہیں  
Rent of building and salaries of permanent servants is called  
(A) محکم لاگت (B) Fixed cost خیر لاگت (C) Variable cost ختم لاگت (D) Marginal cost ضمنی لاگت
- 16- مکمل مقابلہ میں فرم کی اوسط وصولی برابر ہوتی ہے  
Under perfect competition average revenue of firm is equal to  
(A) طلب کے (B) Demand رسد کے (C) Supply مصارف کے (D) Cost قیمت کے
- 17- مکمل مقابلہ کے تحت عرصہ طویل میں فرم عموماً کماتی ہے  
Under perfect competition in the long run a firm usually earns  
(A) زائد از معمول منافع (B) Super normal profit معمول کا منافع (C) Normal profit معمول کا نقصان (D) Little loss غیر معمولی نقصان
- 18- فرموں کا ایک گروپ جو مخصوص شے پیدا کرتا ہے۔ کہلاتا ہے  
A group of firms producing particular commodity is called  
(A) آجڑین (B) Entrepreneurs صارفین (C) Consumers صنعت (D) Industry کارخانہ
- 19- ریکارڈو کے نظریہ کے مطابق ختم زمین کا لگان ہوتا ہے  
According to theory of Ricardo, rent of marginal land is  
(A) کم (B) Less زیادہ (C) More نارمل (D) Normal صفر
- 20- تفرقی لگان اس لئے ادا کیا جاتا ہے کیونکہ  
Differential Rent is paid because  
(A) زمین درخیزی کے لحاظ سے مختلف ہے (B) Richness of land is different طلب کے مقابلہ میں زمین کی رسد کم ہے (C) Demand of land is less زمین کی رسد بڑھائی جاسکتی ہے (D) Supply of land can be increased زمین کی طلب کم ہے

Q. 2 Write short answers of any Eight questions

8x2 = 16

سوال نمبر 2 درج ذیل سے کوئی سے آٹھ سوالات کے مختصر جوابات لکھیے

- (1) اشیاء و خدمات میں فرق بیان کیجیے؟ (2) اشیاء صارفین اور اشیاء سرمایہ میں فرق بیان کیجیے؟ (3) افادہ سے کیا مراد ہے؟ (4) کمیابی سے کیا مراد ہے؟ (5) نظریہ کیسے سے کیا مراد ہے؟
- (6) 'صرف' سے کیا مراد ہے؟ (7) 'متعلق' افادہ سے کیا مراد ہے؟ (8) آزاد اور متعلقہ چیزیں کیا فرق ہے؟ (9) طلب کا بڑھنا اور گرتا سے کیا مراد ہے؟ (10) طلب کی آمدنی چمک سے کیا مراد ہے؟
- (11) طلب کی وقتی چمک کا قیاسی پیمانہ کیا ہے؟ (12) معمولی طلب سے کیا مراد ہے؟

What is the difference between " goods and services " ?  
 What is the difference between consumption goods and capital goods ? (3) What is meant by utility ?  
 What is meant by scarcity ? (5) What is meant by point of satiety ? (6) What is meant by consumption ?  
 What is meant by negative utility ? (8) What is the difference between dependent and independent variable ?  
 What is meant by Rise and Fall in supply ? (10) What is meant by Income Elasticity of demand ?  
 Write down formula of point Elasticity of demand (12) What is meant by complementary demand ?

Q. 3 Write short answers of any Eight questions

8x2 = 16

سوال نمبر 3 درج ذیل سے کوئی سے آٹھ سوالات کے مختصر جوابات لکھیے

- (1) عرصہ قلیل کی رسد سے کیا مراد ہے؟ (2) رسد کے پھیلاؤ سے کیا مراد ہے؟ (3) 'رسد کی چمک اکائی' سے کیا مراد ہے؟ (4) 'خارجہ' کسے کہتے ہیں؟ (5) قرار دینی قیمت سے کیا مراد ہے؟
- (6) زمین سے کیا مراد ہے؟ (7) محنت کی دو خصوصیات تحریر کیجیے؟ (8) ٹھیکہ سرمایہ سے کیا مراد ہے؟ (9) کاروباری تنظیم کی چار اقسام کے نام تحریر کیجیے؟ (10) حردلی کتابوں سے کیا مراد ہے؟
- (11) چھوٹے پیمانہ پر پیش کی تعریف لکھیے؟ (12) قانون بحیرہ حاصل کی تعریف کیجیے؟

What is meant by short run supply ? (2) What is meant by expansion of supply ?  
 What does it mean by elasticity of supply is greater than unity ? (4) What is stock ?  
 What is meant by equilibrium price ? (6) What does it mean by land ? (7) Write two characteristics of labour  
 What is meant by capital formation ? (9) Write the name of four kinds of business organization  
 What is meant by external economies ? (11) Define small scale production (12) Define Law of increasing return

Q. 4 Write short answers of any Nine questions

9x2 = 18

سوال نمبر 4 درج ذیل سے کوئی سے نو سوالات کے مختصر جوابات لکھیے

- (1) مصارف پیداوار سے کیا مراد ہے؟ (2) عرصہ قلیل سے کیا مراد ہے؟ (3) کل وصولی سے کیا مراد ہے؟ (4) اوسط وصولی سے کیا مراد ہے؟ (5) عرصہ وقت کے لحاظ سے منڈی کی اقسام تحریر کیجیے؟
- (6) امداد واری سے کیا مراد ہے؟ (7) منڈی کی تعریف کیجیے؟ (8) انفرادی قیمت سے کیا مراد ہے؟ (9) لگان سے کیا مراد ہے؟ (10) درمی اور حقیقی اجرت میں کیا فرق ہے؟ (11) ختم پیداوار سے کیا مراد ہے؟
- (12) خالص اور مرکب منافع میں فرق بیان کیجیے؟ (13) کم سے کم (اجرت اقل) کی تعریف کیجیے؟

Define costs of production (2) What is short run ? (3) What is meant by total revenues ?  
 What is average revenues ? (5) Write down types of market according to time period (6) What is monopoly ?  
 Define market (8) What do you mean by price discrimination ? (9) Define " rent "  
 Differentiate between nominal and real wage (11) What is meant by marginal production ?  
 Differentiate between net and gross profit (13) Define minimum wage

حصہ دوم

NOTE : Attempt any Three questions from this part

10 x 3 = 30

نوٹ : اس حصہ میں سے کوئی سے تین سوالات حل کرنا ضروری ہے

Explain Adam Smith's definition of Economics	سوال نمبر 5- آدم سمٹھ کی بیان کردہ معاشیات کی تعریف کی وضاحت کیجیے
Explain equilibrium of Demand and Supply with the help of schedule and diagram	سوال نمبر 6- طلب و رسد کا توازن کی وضاحت بذریعہ گوشوارہ اور ڈائیگرام کیجیے
Explain different types of Mobility of Labour	سوال نمبر 7- محنت کی حرکت پذیری کی اقسام بیان کیجیے
Analyze any two cases of firm's equilibrium in short-run under perfect competition	سوال نمبر 8- مکمل مقابلہ کے تحت عرصہ قلیل میں فیرم کے توازن کی کوئی دو صورتوں کا جائزہ لیجیے
What is meant by Minimum wage ? Describe the advantages of Minimum wage in detail	سوال نمبر 9- اجرت اقل سے کیا مراد ہے؟ اجرت اقل کے فوائد تفصیل سے بیان کیجیے